

THE NEW CORONAVIRUS

10 rules to follow:

- 1 Wash your hands frequently
- 2 Avoid close contact with people with severe respiratory infections
- 3 Avoid touching your eyes, nose or mouth with your hands
- 4 Cover your mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing
- 5 Do not take antiviral drugs or antibiotics without medical advice
- 6 Clean surfaces with chlorine or alcohol-based disinfectants
- 7 Wear a mask only if you are sick or if you are taking care of sick people
- 8 MADE IN CHINA products and parcels from China are not dangerous
- 9 If you have a fever or cough or have returned from China in the past 14 days, you can call :

118

800.033.033

1500



10 Pets don't spread the new coronavirus

NOUVEAU CORONAVIRUS

Dix comportements à suivre :

- 1 Lavez-vous souvent les mains
- 2 Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës
- 3 Ne touchez pas vos yeux, votre nez et votre bouche avec vos mains
- 4 Couvrez-vous la bouche et le nez si vous éternuez ou toussez
- 5 Ne prenez pas de médicaments antiviraux ou d'antibiotiques, sauf sur prescription de votre médecin.
- 6 Nettoyez les surfaces avec des désinfectants à base de chlore ou d'alcool
- 7 Utilisez le masque uniquement si vous pensez que vous êtes malade ou si vous aidez des personnes malades.
- 8 Les produits et colis MADE IN CHINA reçus de Chine ne sont pas dangereux
9. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou si vous êtes revenu de Chine depuis moins de 14 jours, vous pouvez contacter



118

800.033.033

1500

10. Les animaux de compagnie ne propagent pas le nouveau coronavirus

新型冠状病毒

请遵守以下 10 条规则：

- 1 勤洗手
- 2 避免与严重呼吸道感染人员密切接触
- 3 避免用双手触摸眼、鼻、口
- 4 咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻
- 5 未经医嘱不得自行服用抗病毒药物或抗生素
- 6 用含氯或含酒精消毒剂清洁表面
- 7 仅在生病或照顾病患时戴口罩
- 8 “中国制造”产品及来自中国的包裹并不危险
- 9 若您发热或咳嗽或过去 14 天自中国返回，请致电

118

800.033.033

1500



10. 宠物不会传播新型冠状病毒

فيروس كورونا الجديد

10 تعليمات يجب اتباعها

- (1) 洗手
- (2) 避免与严重呼吸道感染人员密切接触
- (3) 避免用双手触摸眼、鼻、口
- (4) 咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻
- (5) 未经医嘱不得自行服用抗病毒药物或抗生素
- (6) 用含氯或含酒精消毒剂清洁表面
- (7) 仅在生病或照顾病患时戴口罩
- (8) “中国制造”产品及来自中国的包裹并不危险
- (9) 可能的接触者，如果出现发烧或咳嗽症状，且在过去 14 天内曾前往中国，应立即就医。

118

800.033.033

1500



10. (10) 动物不会传播新型冠状病毒



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna



NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti
da seguire

per gentile concessione dell'AUSL di Reggio Emilia

نہیں کارونا وائرس

پالٹا لئی جوڑی 10 نیم:

1. اپنے رہب وار وار یہوں:
2. سارے دیاں گندیوں لگاؤں والے لے کاں دے جیا دا نہ کرے آئیں توں بھوئے۔
3. اپنے نال اپنیاں اپنے، نک جاں مੂੰہ نੂੰ ہٹھن توں پرہیز کرو۔
4. بھینجن جاں ہٹکن سامنے اپنے مੂੰہ اتے نک نੂੰ تیسٹ پھر نال دکھو۔
5. ڈاکٹر دی سلائی دے بیناں وایرل-رے پک دے ایساں جاں اینٹی بیا ایٹک لئے توں پرہیز کرو۔
6. لگاؤں توں مکبڑ کرن لئی چیڑاں دیاں مرتاں نੂੰ کلے گین جاں اکلے ہل اپا رت لگاؤ رے پک نال ساد کرو۔
7. نکاہ تاں ہی پاٹے جے ٹوں سیما رہے جاں جے ٹوں سیما رے لے کاں دی دے بھال کر رہے رہے۔
8. چین دیاں چیڑاں جاں چین دے آدے پارسال بھر رنکاں نہیں رہا۔
9. جے ٹوں سیما رہے اور چین سے آئے والے پارسل خطرناک نہیں بیس۔
10. پہر اپ کال کرسکتے رہیں

**118
800.033.033
1500**

10. پالٹو جانور نیا کورونا وائرس نہیں پھیلاتے ہیں




نیا کورونا وائرس

10 قابل عمل اصول:

1. اپنے باتھوں کو بار بار دھوئیں
2. شدید تنفسی علامات میں مبتلا لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے سے بچیں
3. اپنے آنکھوں، ناک یا منہ کو اپنے باتھوں سے چھوئے سے بچیں
4. کھانسے یا چھینکنے کے وقت اپنے منہ اور ناک کو شو سے ڈھکیں
5. طبی مشورے کے بغیر ایشی وائز دوائیں یا ایشی بالوتکن نہ لیں
6. سطحون کو کلورین یا الکھل پر مبنی دافع غونت اشیاء سے صاف کریں
7. ماسک صرف تبھی لگائیں جب آپ بیمار ہوں یا بیمار لوگوں کی دیکھ بھاں کر رہے ہوں
8. چین میں تیار شدہ مصنوعات اور چین سے آئے والے چین سے آئے پارسل خطرناک نہیں بیس۔
9. اگر آپ کو بخار یا کھانسی ہو یا پچھلے 14 دنوں کے اندر چین سے واپس آئے ہوں
10. پہر اپ کال کرسکتے رہیں

**118
800.033.033
1500**

10 پالٹو جانور نیا کورونا وائرس نہیں پھیلاتے ہیں



НОВЫЙ КОРОНАВИРУС

10 правил, которым необходимо следовать:

1. Часто мойте руки.
2. Избегайте тесного контакта с людьми с острыми респираторными инфекциями.
3. Не трогайте глаза, нос и рот руками.
4. Прикрывайте рот и нос, если вы чихаете или кашляете.
5. Не принимайте противовирусные препараты или антибиотики, если это не предписано врачом.
6. Мойте и протирайте поверхности дезинфицирующими средствами на основе хлора или спирта.
7. Используйте маску, только если вы подозреваете, что вы больны, или если помогаете больным людям.
8. Продукты и посылки, полученные из Китая, не опасны.
9. Если у вас жар или кашель, или если вы вернулись из Китая менее, чем 14 дней назад, вы можете позвонить

**118
800.033.033
1500**

10. Новый коронавирус не распространяется через домашних животных.



Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Molate e protiriare superfici disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti e le spedite, ricevuti dalla Cina, non sono pericolosi
- 9 Se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni puoi chiamare il numero 118 oppure il numero verde regionale 800.033.033 oppure il numero verde 1500 del Ministero della Salute
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus